

اس اشاعت میں 22 ستمبر 2020 تک کی معلومات شامل ہیں۔

اضافی صنعتیں جنہیں NYC میں دوبارہ کھلنے کی اجازت ہے: کارکنوں کو کیا جاننے کی ضرورت ہے

- NYC دوبارہ کھولنے کے مرحلہ 4 میں ہے۔
- **30 ستمبر 2020 تک:**
 - انڈور ڈائننگ سخت اصولوں کے ساتھ دوبارہ کھل سکتی ہے۔ اس دستاویز میں موجود دوبارہ کھلنے کے لیے رہنما خطوط سے رجوع کریں۔ نیز میئر کے صلاحکار کا تیار کردہ [NYC انڈور ڈائننگ سے متعلق FAQ](#) بھی پڑھیں۔
 - انڈور سونمنگ پولز **33%** گنجائش پر دوبارہ کھل سکتے ہیں۔
 - اپ ڈیٹس اور معلومات کے لیے nyc.gov/workers ملاحظہ کریں۔



درج ذیل صنعتیں NYC میں دوبارہ کھل سکتی ہیں:

- انڈور فوڈ سروس اور ڈائننگ، بشمول ریستوران، ادارے اور دیگر
- غذائی وینڈرز/مراعات (30 ستمبر تک)
- مالز اور کسینو (9 ستمبر تک)
- جم اور فٹنس سنٹرز (2 ستمبر تک)
- کم خطرے والے انڈور آرٹس اور تفریح، بشمول میوزیم، تاریخی سائٹس، ماہی خانے اور کم خطرے والے دیگر انڈور ثقافتی آرٹس (24 اگست 2020 تک)
- ہاؤسنگ ایلیز (17 اگست 2020 تک)

اگر آپ کسی احاطہ کردہ کاروبار میں کام کرتے ہیں تو، کچھ عمومی اور صنعت سے متعلق مخصوص تقاضوں کے لیے جن پر عمل کرنا آپ کے آجر کو ضروری ہے، اس اشاعت کو پڑھیں۔ تفصیلی رہنمائی forward.ny.gov پر ہے۔ کام کی جگہ کو دوبارہ کھولنے، صحت اور حفاظت کے رہنما خطوط سے متعلق سوالات کے ساتھ، یا ایسے آجر کو اطلاع دینے کے لئے جو دوبارہ کھولنے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے آپ **311** برائے ورکر پروٹیکشن ہاٹ لائن یا **1-212-436-0381** پر کال بھی کر سکتے ہیں۔

عمومی تقاضے جن پر کاروبار دوبارہ کھولنے پر تمام آجروں کو عمل کرنا ضروری ہے

<ul style="list-style-type: none"> • اپنے کام کی جگہ میں ایسی جگہ پر حفاظتی منصوبہ شائع کریں جہاں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ • تحفظ اور حفظان صحت کے پروٹوکولز پر خود کو اور اپنے ساتھی کارکنان کو تربیت دیں۔ • روزانہ ملازم کی صحت کی اسکریننگ انجام دیں اور، قابل اطلاق ہونے پر، دوسروں (ٹھیکیداروں، وینڈرز، سرپرستوں) کی اسکریننگ کریں۔ • جو ملازمین بیمار ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں انہیں آپ کے آجر لازمی طور پر گھر بھیج دیں۔ • تحفظ اور حفظان صحت کے پروٹوکولز کے بارے میں معلومات کے ساتھ ملازمین اور عوام کے لیے نشانات شائع کریں۔ 	<p>مواصلت اور اسکریننگ</p>
<ul style="list-style-type: none"> • خود کو اور اپنے ساتھی کارکنوں کو مفت فیس کورنگز دیں اور متبادل اشیاء فراہم کریں۔ • آپ کے آجر حفاظتی سامان استعمال کرنے، صاف کرنے اور پھینکنے کے بارے میں آپ کو اور آپ کے ساتھی کارکنوں کو لازمی طور پر تربیت دیں۔ • آپ کے آجر پر یہ یقینی بنانا لازم ہے کہ وہ سرپرستوں اور ملاقاتیوں کے ساتھ میل جول کرتے وقت اور دوسروں سے 6 فٹ کی دوری بنانا ممکن نہیں ہونے پر فیس کورنگ پہنتے ہیں۔ 	<p>حفاظتی آلات</p>
<ul style="list-style-type: none"> • جہاں پر باسانی ہاتھ صاف کرنا ممکن نہیں ہے وہاں اہلکاروں کے لئے ہاتھوں کی حفظان صحت کے اسٹیشنز فراہم کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں، جس میں صابن، پانی، اور کاغذ کے تولیوں سے ہاتھ دھونا، نیز الکحل پر مبنی ہینڈ سینٹائزر جس میں 60% فیصد یا اس سے زیادہ الکحل ہو شامل ہے۔ • باقاعدگی سے عمومی جگہوں اور زیادہ ٹچ ہونے والی سطحوں اور چیزوں کی کثرت سے اور کم از کم روزانہ صفائی کریں۔ • مثالوں میں دروازے کے دستے، دستی سہارے، روشنی کے سوئچ، آرام گاہیں شامل ہیں۔ • آپ کے آجر پر سرپرستوں اور ملاقاتیوں کے ذریعے ہر استعمال کے بعد استعمال شدہ جگہوں اور سطحوں کی صفائی کرنا لازم ہے۔ 	<p>حفظان صحت، صفائی ستھرائی، اور جراثیم کشی</p>

<p>● حفظان صحت، صفائی ستھرائی، اور جراثیم کشی</p> <p>آلات اور ٹولز کی شیئرنگ کو محدود کریں اور ہر استعمال کے بعد آلات، اور ٹولز کی باقاعدگی سے صفائی اور جراثیم کشی کریں۔</p> <p>اگر آلات کو ممکنہ نقصان کی وجہ سے آلات کی شیئرنگ کو محدود کرنا یا ان کو صاف کرنا ممکن نہ ہو تو، آپ کے آجر پر ملازموں سے دستانے پہننے کا تقاضا کرنا لازم ہے۔</p>	<p>● جہاں بھی ممکن ہو افراد کے بیچ 6 فٹ کی دوری یقینی بنائیں۔</p> <p>● سرپرستوں اور ملاقاتیوں سے فیس کورنگ پہننے کا تقاضا کریں، بشرطیکہ ان کی عمر 2 سال سے زائد ہو اور وہ طبی لحاظ سے فیس کورنگز برداشت کرنے پر قادر ہوں۔</p> <p>● آرام گاہوں اور وقفہ والے کمروں جیسے چھوٹے حصوں میں تصرف کو محدود کرنے کیلئے علامتی تختی شائع کریں۔</p>
---	--

انڈور فوڈ سروس / ڈائننگ کے لیے تقاضے

آپ کے آجر پر لازم ہے کہ:

- (دوبارہ کھولنے سے پہلے) صحت مند اور محفوظ ماحول یقینی بنانے کے لیے کچن سسٹمز کی قبل از واپسی والی جانچیں اور تشخیصات مکمل کریں۔
 - ایک افزوں شدہ اینر فلٹریشن سسٹم موجود رکھیں۔
 - تصرف کو زیادہ سے زیادہ 25% گنجائش تک محدود رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ گنجائش میں ملازمین اور سرپرست شامل ہیں۔
 - کیکٹرننگ کے اداروں پر ایونٹ کی کسی بھی جگہ میں سرپرستوں کی تعداد کو 50 سے کم یا زیادہ سے زیادہ گنجائش کے 25% تک، جو بھی کم ہو، محدود کرنا لازم ہے۔
 - نمایاں طور پر ادارے کے اندر اور باہر میں ایسی جگہ پر یہ بات شائع کریں جہاں سرپرست حضرات اسے دیکھ سکیں:
 - اجازت یافتہ سرپرستوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کے مدنظر 25% گنجائش پر انڈور ڈائننگ۔
 - خلاف ورزیوں کی رپورٹ کرنے کے لیے فون اور ٹیکسٹ نمبرز:
 - 208-4160 (833) پر کال کریں
 - VIOLATION لکھ کر 904-5036 (855) پر ٹیکسٹ کریں
 - دروازے پر ہر پرسرست کا درجہ حرارت لیں اور جس کا بھی درجہ حرارت 100.0 ڈگری سے زیادہ ہو اسے داخلے سے منع کر دیں۔
 - ہر پارٹی کے ایک ممبر سے معلومات – پورا نام، فون نمبر، اور پتہ – اکٹھا کریں، رابطے کا تعاقب کرنے کے مقصد سے۔
 - بار میں سروس ممنوع قرار دیں۔
 - آدھی رات کو انڈور فوڈ سروس بند کر دیں۔
 - امریکی ماحولیاتی تحفظ ایجنسی (Environmental Protection Agency, EPA) کے ذریعہ شناخت شدہ مصنوعات کو صفائی اور جراثیم کشی کے لئے COVID-19 کے خلاف موثر کے طور پر استعمال کریں۔
 - جہاں کوئی لائن بنے وہاں، بشمول آرام گاہوں، آرڈر پک اپ، یا ادائیگی کے مقام پر 6 فٹ کی دوری واضح طور پر نشان زد کریں۔
- جہاں ممکن ہو وہاں گاہکوں اور ملازمین کے لیے علیحدہ داخلہ اور نکاسی کے راستے مقرر کریں۔
- کچن کے ٹولز اور آلات جیسے برتنوں اور تسلوں کی شیئرنگ محدود کریں یا کارکنان سے دستانے پہننے اور آئٹمز کو استعمال کرنے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھوں کو دھونے کا تقاضا کریں۔
- یقینی بنائیں کہ تمام ملازمین، بشمول بس ٹیبلز استعمال کرنے والے ملازمین ریاستی اور مقامی سینٹری کوڈز پر عمل کرتے ہیں۔ دستانے پہننے والے ملازمین کو کثرت سے اور کاموں کو تبدیل کرنے کے بعد انہیں بدل دینا چاہیے۔ دستانے نہیں پہننے والے ملازمین کو کثرت سے صابن اور پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔
- شیئر کردہ حصوں اور سطحوں کو چھونے سے پہلے اور اس کے بعد صفائی اور جراثیم کشی کے لیے رسد فراہم کریں۔
- اگر ہر استعمال کے بعد آلات کی صفائی اور جراثیم کشی نہیں ہو سکتی ہو تو صرف نشست دستیاب ہونے پر گاہکوں کو متنبہ کرنے کے لیے بزر جیسے آلات کا استعمال کریں؛ ناقابل ضیاع مینو، سلور ویئر، مسالے کے ڈبوں کی پر استعمال کے بعد صفائی اور جراثیم کشی کریں؛ یا قابل ضیاع مسالے اور سلور ویئر فراہم کریں۔
- (ٹیک آؤٹ/ڈبلیوری) غذا اور مشروب کے منتظر گاہکوں کے لیے ہاتھوں کے حفظان صحت کے اسٹیشنز فراہم کریں اور اگر پک اپ/ڈبلیوری اندرون میں ہو تو یقینی بنائیں کہ ہوا داری کے مدنظر کھڑکیاں/دروازے کھلے ہوئے ہیں۔
- اندرون اور بیرون میں میزوں کو محدود اور منظم کریں تاکہ وہ ہر سمت میں 6 فٹ کی دوری پر ہوں۔ اگر جگہ رکھنا ممکن نہیں ہو تو آپ کے آجر پر ایسی طبعی رکاوٹیں کھڑی کرنا لازم ہے جو کم از کم 5 فٹ اونچی ہوں اور ہنگامی یا آتش زدگی کی صورت میں نکاسی کو مسدود نہیں کرتی ہوں۔
- میز پر نشست کو زیادہ سے زیادہ 10 گاہکوں تک محدود کریں جو لازمی طور پر اسی پارٹی سے ہوں چاہے ایک ہی گھرانے کے نہ ہوں۔ اجتماعی میزوں کی تہی اجازت ہے جب مختلف پارٹیاں 6 فٹ کی دوری پر رہ سکیں۔

گیمنگ کی سہولیات / کسینوز کے لیے تقاضے

آپ کے آجر پر لازم ہے کہ:

- (دوبارہ کھولنے سے پہلے) صحت مند اور محفوظ ماحول یقینی بنانے کے لیے میکانیکل؛ پانی؛ ایلیویٹر؛ اور حرارت، ہوا داری، اور ایئر کنڈیشننگ (heating, ventilation, and air conditioning, HVAC) سسٹمز کی قبل از واپسی والی جانچیں اور تشخیصات مکمل کریں۔
 - ایک ایئر فلٹریشن سسٹم موجود رکھیں جو MERV-13 یا اس سے اوپر آپریٹ کرتا ہو۔ جو فسیلیٹیز اس سطح پر آپریٹ کرنے سے قاصر ہوں ان پر HVAC یا امریکن سوسائٹی آف ہیٹنگ، ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ انجینئرز (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE) سے مصدقہ پیشہ ور فرد یا لائسنس یافتہ بلڈنگ انجینئر سے اس عدم اہلیت کو ضبط تحریر کرانا لازم ہے۔ فسیلیٹیز پر لازم ہے کہ:
 - ریاست ہائے سٹی کے محکمہ صحت کے پاس دستاویزی شہادت، بشمول MERV-13 میں اپ گریڈ کرنے کی لاگت جمع کرائیں؛
 - کم از کم قابل اجازت درجہ بندی، MERV-12 یا MERV-11 پر آپریٹ کرنے کی منظوری کی درخواست کریں؛ اور مرکز برائے امراض پر کنٹرول اور روک تھام (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) کی جانب سے اضافی ہوا داری اور تخفیف کے پروٹوکول کو اختیار کریں۔
 - تخفیف کے پروٹوکولز میں بلا تحدید شامل ہیں:
 - ممکن حد تک کھڑکیاں کھولنا؛
 - ممکن حد تک ہوا داری کی شرحیں اور بیرون میں ہوا کی ہوا داری کو بڑھانا؛
 - سسٹمز کو طویل تر اوقات تک چالو رکھنا؛
 - تازہ ہوا کی سپلائی بڑھانے والے سسٹمز برقرار رکھنا؛
 - ممکن حد تک دوبارہ گردش کو کم کرنا یا ختم کرنا؛
 - ہوا سے پیدا ہونے والے وائرس کے ذرات کو غیر فعال کرنے کے لیے الٹرا وائلٹ جریمیسائٹل اریڈیئیشن (ultraviolet germicidal irradiation, UVGI) استعمال کرنا؛
 - قابل منتقلی ایئر فلٹرز لگانا؛
 - سسٹمز اور فلٹرز کا باقاعدگی سے معائنہ کر کے یہ یقینی بنانا کہ وہ صحیح سے کام کر رہے ہیں؛ اور
 - بیجا مداخلت روکنے کے لیے فلٹرز کو مہر بند کرنا۔
 - تصرف کو زیادہ سے زیادہ 25% گنجائش تک محدود رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ گنجائش میں ملازمین اور سرپرست شامل ہیں۔
 - تب تک داخلہ ممنوع قرار دیں جب تک سرپرست حضرات فیس کورنگ نہیں پہنے ہوئے ہوں۔ واحد استثناء کے لیے عمومی تقاضے کے سیکشن میں جسمانی دوری دیکھیں۔ سرپرست حضرات اپنی شناخت کی تصدیق کرنے کے لیے داخلی دروازہ پر فیس کورنگ بٹا سکتے ہیں۔ تاہم، انہیں دوسروں سے کم از کم 6 فٹ دور رہنا لازم ہے۔
 - یقینی بنائیں کہ مختلف پارٹیاں ایک دوسرے سے 6 فٹ کی دوری برقرار رکھیں الا یہ کہ حفاظت یا سرگرمی اس سے مختصر دوری کی متقاضی ہو۔
- عمومی ملازمین والے حصوں جیسے وقفہ والے کمروں میں اور جہاں سرپرست حضرات جمع ہو سکتے ہوں یا لائنیں بنا سکتے ہوں وہاں جیسے نشست والے حصوں اور آرام گاہوں میں 6 فٹ کی دوری واضح طور پر نشان زد کریں۔ ایسی جگہ پر کوئی نشست یا مشینیں بند کر دیں جہاں 6 فٹ کی دوری ممکن ہو۔
- سرپرست کے ٹریفک کی روانی کو کنٹرول کرنے، جسمانی دوری کی سہولت بہم پہنچانے کے لیے گیمنگ ایریا میں زیادہ سے زیادہ گنجائش نافذ کرنے، اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ سرپرست حضرات اکٹھے نہیں ہوتے ہیں یا آوارہ گردی نہیں کرتے ہیں سکیورٹی کے اہلکار یا مزید ملازمین کا استعمال کریں۔
- گیمنگ ایریا میں غذا اور مشروب کی سروس بند کر دیں۔ لائیو پرفارمنسز ممنوع قرار دیں۔
- ڈیلروں اور سرپرستوں کے بیچ طبعی رکاوٹیں کھڑی کریں، چاہے 6 فٹ کی دوری ممکن ہو۔
- پوری گیمنگ فسیلیٹی میں ہینڈ سینیٹائزر رکھیں۔
- ہر استعمال کے بعد شیئر کردہ سامان کی صفائی کریں اور صفائی اور جراثیم کشی کی رسد سرپرستوں کو دستیاب کرائیں۔ استعمال کے دوران آلات کی صفائی اور جراثیم کشی کے لیے ملازمین کا دستیاب رہنا ضروری ہے، اگرچہ آپ کا آجر سرپرستوں سے ہر استعمال سے پہلے اور اس کے بعد آلات کو صاف کرنے کا تقاضا کر سکتا ہے۔ مشینیں استعمال کرنے کے بعد سرپرستوں کو صفائی اور جراثیم کشی کی درخواست کرنے کا اختیار ہونا ضروری ہے۔
- گیمنگ فلور سے الگ جگہ محفوظ رکھیں تاکہ کھانا کھانے کے دوران ملازمین سماجی دوری کا مشاہدہ کر سکیں۔ غذا اور مشروب شیئر کرنا ممنوع ہے۔
- ایونٹ کی کسی بھی جگہ میں سرپرستوں کی تعداد کو 50 سے کم یا زیادہ سے زیادہ گنجائش کے 25% تک، جو بھی کم ہو، محدود کریں۔ زیادہ سے زیادہ گنجائش میں ملازمین اور دیگر سرپرست حضرات شامل ہیں۔
- مختلف ملازمین کے ذریعے ہر استعمال کے بیچ نقدی کے ڈبوں جیسے شیئر کردہ ورک اسٹیشنز کی صفائی اور جراثیم کشی کریں۔
- یقینی بنائیں کہ سرپرست حضرات دوسرے سرپرستوں کے کارڈز کو ہرگز نہیں چھوتے ہیں اور، جہاں ممکن ہو وہاں پر، سرپرستوں کو جتنی بار کارڈز کو چھونا ضروری ہے اس کی تعداد کم کرنے کے لیے گیمز کو دوبارہ تشکیل دیں۔ نئے ڈیلروں پر "ٹیبینگ ان" کی جگہ پر اپنی آمد کا اعلان کر کے باہر جانے والے ڈیلروں کی جگہ لینا لازم ہے۔

اسپورٹس ویجنگ کاؤنٹرز کے لیے تقاضے:

اہم بات: کسینوز ٹیبل گیمز تب تک آپریٹ نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ میزوں پر موجود کھلاڑیوں کے بیچ طبعی رکاوٹیں کھڑی نہ کریں اور نیو یارک اسٹیٹ کا گیمنگ کمیشن رکاوٹوں کو منظوری نہ دے۔ میزوں کے بیچ 6 فٹ کی دوری برقرار رکھنے کے لیے کسینو کو میزوں کا بھی نظم کرنا ضروری ہے۔

ٹیبل گیمز جیسے پوکر اور بلیک جیک کے لیے دیگر تقاضے:

- (نئے کھلاڑیوں/ڈیلر کو تبدیل کرنے سے پہلے) صفائی اور جراثیم کشی کریں (یا حسب اطلاق بدلیں یا ضائع کر دیں):

- کرسی کے حصے؛
- گیم ٹیبل کے سہارے؛
- رولٹیٹ وہیل بیڈز؛
- گیندیں؛
- ٹوک باکسز؛
- ڈانس؛ اور
- آن/آف بٹن۔

- گیم میں شامل ہونے سے پہلے سرپرستوں سے ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرنے کا تقاضا کریں۔

چپر جیمپس (سارٹنگ مشینیں) اور پٹ اور پوکر پوڈیمز کی ہر گھنٹے پر اور پش کارٹس، بلیک جیک ڈسکارڈ ہولڈرز، بکیریٹ ڈسکارڈ پائلز، اور ہارڈ گیم والی سطحوں کی ہر چار گھنٹے پر صفائی اور جراثیم کشی کریں (یا حسب اطلاق بدلیں یا ضائع کر دیں)۔

- کسی سرپرست کے ہار جانے یا انہیں واپس کر دینے کے بعد کھیل سے چپس کو ہٹا دیں یا چپس کو دوبارہ گردش دینے سے پہلے ان کی صفائی اور جراثیم کشی کریں۔

- جو سرپرست کاؤنٹر کے لیے لائن پر ہیں ان کے بیچ 6 فٹ کی دوری یقینی بنانے کے لیے مارکرز شائع کریں اور مشغلہ جاتی صحت و سلامتی کی انتظامیہ (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) کے رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے سرپرستوں اور کاؤنٹر پر حاضرین کے بیچ رکاوٹ کھڑی کریں۔

گیمنگ مشینوں کے لیے تقاضے:

- سلاٹ مشینیں اور دیگر گیم مشینیں اس طرح تیار کریں کہ وہ تمام سمتوں میں 6 فٹ کی دوری پر ہوں۔ جسمانی دوری کے مدنظر آپ کے آجر کو مشینوں کو منتقل کرنے یا غیر فعال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
- گیم مشینوں، سلاٹ مشینوں کے کاؤنٹرز اور شیئر کردہ دیگر اشیاء اور آلات کی کم از کم ہر چار گھنٹے پر صفائی اور جراثیم کشی کریں۔

کریپس اور بغیر کرسیوں والے دیگر گیمز کے لیے تقاضے:

- سرپرستوں کے بیچ 6 فٹ کی دوری یقینی بنانے کے لیے مارکرز شائع کریں اور میز کے گرد سرپرستوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے طبعی رکاوٹیں کھڑی کریں۔

مالز کے لیے تقاضے

آپ کے آجر پر لازم ہے کہ:

- (دوبارہ کھولنے سے پہلے) صحت مند اور محفوظ ماحول یقینی بنانے کے لیے میکانیکل؛ پانی؛ ایلویٹر؛ اور حرارت، ہوا داری، اور ایئر کنڈیشننگ (HVAC) سسٹمز کی قبل از واپسی والی جانچیں اور تشخیصات مکمل کریں۔
- (800,000 فٹ سے بڑے مالز) ایک ایئر فلٹریشن سسٹم موجود رکھیں جو MERV-13 یا اس سے اوپر آپریٹ کرتا ہو۔ جو فسیلیٹیز اس سطح پر آپریٹ کرنے سے قاصر ہوں ان پر HVAC یا امریکن سوسائٹی آف ہیٹنگ، ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ انجینئرز (ASHRAE) سے مصدقہ پیشہ ور فرد یا لائسنس یافتہ بلڈنگ انجینئر سے اس عدم اہلیت کو ضبط تحریر کرانا لازم ہے۔ فسیلیٹیز پر لازم ہے کہ:
 - دستاویزی شہادت ریاست یا سٹی کے محکمہ صحت کے پاس جمع کرائیں؛
 - کم از کم قابل اجازت درجہ بندی، MERV-12 یا MERV-11 پر آپریٹ کرنے کی منظوری کی درخواست کریں؛ اور
 - مرکز برائے امراض پر کنٹرول اور روک تھام (CDC) کی جانب سے اضافی ہوا داری اور تخفیف کے پروٹوکول کو اختیار کریں۔
- تخفیف کے پروٹوکولز میں بلا تحدید شامل ہیں:
 - ممکن حد تک ہوا داری کی شرحیں اور بیرون میں ہوا کی ہوا داری کو بڑھانا؛
 - سسٹمز کو طویل تر اوقات تک چالو رکھنا؛
 - تازہ ہوا کی سپلائی بڑھانے والے سسٹمز برقرار رکھنا؛
 - ممکن حد تک دوبارہ گردش کو کم کرنا یا ختم کرنا؛
 - ہوا سے پیدا ہونے والے وائرس کے ذرات کو غیر فعال کرنے کے لیے الٹرا وائلٹ جرمیسائڈل اریڈیٹیشن (UVGI) استعمال کرنا؛
 - قابل منتقلی ایئر فلٹرز لگانا؛
 - سسٹمز اور فلٹرز کا باقاعدگی سے معائنہ کر کے یہ یقینی بنانا کہ وہ صحیح سے کام کر رہے ہیں؛ اور
 - بیجا مداخلت روکنے کے لیے فلٹرز کو مہر بند کرنا۔
- (800,000 فٹ سے چھوٹے مالز) ایک ایئر فلٹریشن سسٹم موجود رکھیں جو MERV-11 پر آپریٹ کرتا ہو لیکن مثالی طور پر MERV-13 یا اس سے اوپر ہو جیسا کہ HVAC یا ASHRAE کے پیشہ ور فرد یا لائسنس یافتہ بلڈنگ انجینئر کے ذریعے تصدیق شدہ اور ضبط تحریر شدہ ہے۔
- تصدق کو زیادہ سے زیادہ گنجائش کے 50% تک محدود رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ گنجائش میں ملازمین اور گاہک شامل ہیں۔
- داخلے پر پابندی لگائیں الا یہ کہ گاہک فیس کورنگ پہنے ہوئے ہوں۔ واحد استثناء کے لیے عمومی تقاضے کے سیکشن میں جسمانی دوری دیکھیں۔
- یقینی بنائیں کہ مختلف پارٹیوں کے گاہک ایک دوسرے سے 6 فٹ کی دوری برقرار رکھتے ہیں۔
- یقینی بنائیں کہ ملازمین گاہکوں سے میل جول کر تے وقت فیس کورنگ پہنے ہوئے ہوں اور یہ کہ گاہک جب دوسروں سے 6 فٹ سے کم دوری پر ہوں تو وہ فیس کورنگ پہنے ہوئے ہوں۔
- گاہک کے ٹریفک کی روانی کو کنٹرول کرنے اور یہ یقینی بنانے کے لیے سکیورٹی اہلکار یا مزید ملازمین کا استعمال کریں کہ گاہک جمع نہیں ہوتے ہیں یا آوارہ گردی نہیں کرتے ہیں۔ عمومی حصوں میں ہینڈ سینیٹائزر رکھیں۔
- آسائشات جیسے نشست کی عمومی جگہیں، پانی کے فوارے اور سیلف سروس والے بار کو بند کر دیں اور والیٹ سروسز برخاست کر دیں۔
- فوڈ کورٹس کے مدنظر نیو یارک اسٹیٹ کے محکمہ صحت کی "COVID-19 کی صحت عامہ کی ایمرجنسی کے دوران غذائی خدمات کے لیے عبوری رہنمائی" پر عمل کریں۔ اس میں شامل ہیں:
 - میزوں اور نشستوں کی طبعی دوری؛
 - گاہکوں کی پارٹیوں کے بیچ سماجی دوری؛ اور
 - تصرف کی تحدیدات۔

جم اور فٹنس سنٹرز کے لیے تقاضے

یہ رہنما خطوط تندرستی کی سرگرمیوں اور سہولیات، بشمول لیکن بلا تحدید درج ذیل پر لاگو ہوتے ہیں:

- اسٹینڈ ایلون، ہوٹل*، ریزیڈنسیل*، اور دفتر کے جم اور فٹنس سنٹرز
- اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جم اور فٹنس سنٹرز
- یوگا/پائلیٹس/بار اسٹوڈیوز
- باکسنگ/کک باکسنگ جم
- فٹنس بوٹ کیمپس
- کراس فٹ یا دیگر پلائیومیٹرک باکسز
- دیگر اجتماعی فٹنس کلاسیں

نوٹ:

- انٹور پولز 30 ستمبر 2020 کو دوبارہ کھل سکتے ہیں۔ تاہم، نہانے کی سہولیات جیسے سوانا، اسٹیم رومز اور انٹور اسپا پول لازمی طور پر بند رہیں گے۔ پول آپریٹرز کے لیے رہنمائی nyc.gov/health پر دستیاب ہے۔
 - انٹور اجتماعی فٹنس کلاسوں کو اگلے اطلاع تک NYC میں دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔
- * رہائش اور ہوٹل جم اور فٹنس سنٹرز میں ادارے کے ذریعے رہنما خطوط پر عمل ہونا یقینی بنانے کے لیے عملہ کا دستیاب ہونا ضروری ہے۔

آپ کے آجر پر لازم ہے کہ:

- دوبارہ کھلنے سے پہلے یا 14 دنوں کے اندر NYC کے محکمہ صحت کے معائنے کا شیڈول طے کریں۔
 - ہوا داری کا ایک سسٹم موجود رکھیں جو MERV-13 یا زیادہ پر آپریٹ کرتا ہو۔ اس سطح پر آپریٹ کرنے سے قاصر اداروں پر لازم ہے کہ ایک حرارتی، ہوا داری اور ایئر کنڈیشننگ (HVAC) پروفیشنل سے اس عدم اہلیت کو ضبط تحریر کرائیں اور امریکن سوسائٹی آف ہیٹنگ، ریفریجریٹن اینڈ ایئر کنڈیشننگ انجینئرز (ASHRAE) اور مرکز برائے امراض پر کنٹرول اور روک تھام (CDC) کی جانب سے اضافی ہوا داری اور تخفیف کے پروٹوکولز کو اختیار کریں۔
 - صفائی اور جراثیم کشی کے لیے CDC کے رہنما خطوط پر عمل کریں اور صفائیوں کی تاریخ، وقت اور حد کے ساتھ لاگز سنبھال کر رکھیں۔
 - تصرف کو زیادہ سے زیادہ گنجائش کے 33% تک محدود رکھیں۔ اس میں انٹور سوئمنگ پول شامل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ گنجائش میں ملازمین اور سرپرست شامل ہیں۔
 - ورلپولز، سوانا، بہاپ کمرے اور پانی کے فوارے بند کر دیں۔ پانی کی بوتل بھرنے کے اسٹیشنز کھلے رہ سکتے ہیں۔
 - عمومی شاورز بند کر دیں۔ ادارے انفرادی شاورز فراہم کر سکتے ہیں لیکن صرف اس صورت میں کہ آپ کا آجر ہر استعمال کے بعد ان کی صفائی اور جراثیم کشی کرے۔
 - ایسی پرخطر سرگرمیوں کو ممنوع قرار دیں جو جسمانی رابطے پر مشتمل ہوں؛ مثلاً، مارشل آرٹس، باکسنگ۔
1. فیس کورنگ پہننے ہوئے ہوں۔ واحد استثناء کے لیے عمومی تقاضے کے سیکشن میں جسمانی دوری دیکھیں۔ جو سرپرست حضرات فیس کورنگ پہننے سے طبی لحاظ سے قاصر ہوں ان پر فیس شیلڈ پہننا لازم ہے، ویسے CDC فیس کورنگ کے بدل کے بطور اس کی تجویز نہیں کرتا ہے۔
 2. صحت کی اسکریننگ مکمل کریں جو، کم از کم، سرپرستوں سے یہ پوچھتا ہو کہ آیا:
 - انہیں پچھلے 14 دنوں میں COVID-19 کی علامات کا سامنا ہوا ہے
 - پچھلے 14 دنوں میں COVID-19 کے مدنظر ان کی جانچ مثبت آئی ہے
 - پچھلے 14 دنوں کے اندر کسی ایسے فرد سے ان کا رابطہ ہوا ہے جس کو تصدیق شدہ یا مشکوک COVID-19 ہوا ہے
 - پچھلے 14 دنوں کے اندر انہوں نے 24 گھنٹے سے زیادہ وقت کے لیے زیادہ خطرے والی ریاست کا سفر کیا ہے۔
 3. رابطہ کا تعاقب کرنے کے مقاصد کے مدنظر (فاصلاتی طور پر یا بناات خود) سائن ان کریں اور پورا نام، فون نمبر، اور پتہ فراہم کریں۔ ادارے پر ان ریکارڈوں کو 28 دنوں تک سنبھال کر رکھنا لازم ہے۔
- بر فرد، بشمول ملازمین، سرپرستوں (جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے)، اور جہاں ممکن ہو وہاں، ان ٹھیکیداروں اور وینڈرز کے لیے ایک لاگ سنبھال کر رکھیں جن کا رابطہ دوسروں کے ساتھ ہوا ہو اور 28 دنوں تک ریکارڈز سنبھال کر رکھیں۔ لاگ میں رابطہ کی معلومات، بشمول پورا نام، فون نمبر اور پتہ شامل ہونا ضروری ہے۔

- یقینی بنائیں کہ سرپرست حضرات ورزش کرتے ہوئے دوسروں سے 6 فٹ کی دوری برقرار رکھتے ہیں۔
 - ورک اسٹیشنز لازمی طور پر کم از کم 6 فٹ الگ ہوں۔
 - اسپاٹنگ کی ورزشیں ممکن حد تک مختصر ہوں۔
 - ذاتی تربیت دہندگان جہاں ممکن ہو وہاں 6 فٹ کی دوری لازماً برقرار رکھیں، فیس کورنگ پہنیں اور ذاتی آئٹمز جیسے تولیے شیئر کرنے سے پرہیز کریں۔
- اشیاء کی شیئرنگ اور شیئر کردہ سطحوں کو چھونے کو محدود کریں، ورک اوٹ والے سامان کو چھوڑ کر۔ جب ملازمین شیئر کردہ اشیاء کے رابطے میں آئیں تو انہیں سینیٹائز کرنا یا اپنے ہاتھوں کو دھونا اور دستانے پہننا لازم ہے۔
- لاکر روم، آرام گاہوں اور وقفہ والے کمروں جیسے حصوں میں 6 فٹ کی دوری یقینی بنانے کے لیے مارکرز شائع کریں۔
- ہر دو گھنٹے پر لاکر روم اور آرام گاہوں کی صفائی اور جراثیم کشی کریں۔
- اگر ادارہ کھیل کود اور تفریح، ریٹیل، غذائی خدمت، دفتر اور نگہداشت طفل کی خدمات پیش کرتا ہے تو ان خدمات کے مدنظر نیو یارک اسٹیٹ کے محکمہ صحت (DOH) کے رہنما خطوط پر عمل کریں۔

کم خطرے والے انڈور آرٹس اور تفریح کے لیے تقاضے

آپ کے آجر پر لازم ہے کہ:

- کسی حصے میں میں تصرف کو زیادہ سے زیادہ 25% گنجائش تک محدود رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ گنجائش میں ملازمین، سرپرست اور ملاقاتی حضرات شامل ہیں۔
 - بھڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے سرپرستوں اور ملاقاتیوں سے پیشگی ٹکٹیں خریدنے کو کہیں اور ملاقات کے مخصوص اوقات طے کریں۔
 - سرپرستوں اور ملاقاتیوں کو صحت کی اسکریننگز مکمل کرنے کی ترغیب دیں۔
 - تب تک داخلہ ممنوع قرار دیں جب تک سرپرست اور ملاقاتی حضرات فیس کورنگ نہ پہنیں۔ واحد استثناء کے لیے عمومی تقاضے کے سیکشن میں جسمانی دوری دیکھیں۔
 - یقینی بنائیں کہ ملازمین سرپرستوں اور ملاقاتیوں سے میل جول کر تے وقت فیس کورنگز پہنے ہوئے ہوں اور یہ کہ سرپرست اور ملاقاتی جب دوسروں سے 6 فٹ سے کم دوری پر ہوں تو وہ فیس کورنگز پہنے ہوئے ہوں۔
 - یقینی بنائیں کہ مختلف پارٹیوں میں موجود سرپرست اور ملاقاتی ایک دوسرے سے 6 فٹ کی دوری برقرار رکھیں۔ جہاں جسمانی دوری ممکن نہ ہو وہاں — مثلاً، کیش رجسٹر پر — ہر فرد پر فیس کورنگ پہننا لازم ہے۔
 - انتظار اور پارکنگ کے حصوں کا انتظام کریں تاکہ سرپرست اور ملاقاتی حضرات کم از کم 6 فٹ دور ہوں۔
 - تنگ بغلی راستوں، گلیاروں یا جگہوں میں دو طرفہ پیدل ٹریفک کم کرنے کے لیے تیر کے نشان والے ٹیپ یا نشانات استعمال کریں۔
- عمومی حصوں جیسے ٹکٹ کی لائنوں، ایلیویٹر کے داخلی راستوں میں، نمائشوں کے سامنے، کلاک ان/اؤٹ اسٹیشنز پر، صحت کی اسکریننگ کے اسٹیشنوں پر 6 فٹ کی دوری یقینی بنائیں۔
- سرپرست اور ملاقاتی کے ٹریفک کی روانی کنٹرول کریں۔ چھوٹے حصے میں نمائشوں میں، آپ کے آجر پر جسمانی دوری کی سہولت بہم پہنچانے اور زیادہ سے زیادہ گنجائش لاگو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گنجائش کا حساب کرنا لازم ہے۔ آپ کے آجر کو زیادہ سے زیادہ مجمع کا سائز نافذ کرنے کے لیے ان حصوں میں مزید ملازموں کو رکھنا پڑ سکتا ہے۔
- گروپ ٹورز کو اسی پارٹی کے اراکین تک محدود رکھیں اور یقینی بنائیں کہ گروپ کا میزان زیادہ سے زیادہ گنجائش سے کم ہو جس میں ملازمین اور دیگر سرپرست اور ملاقاتی بھی شامل ہیں۔
- زیادہ خطرے والی باہم میل جول والی نمائشیں بند کر دیں۔
- بچوں کی نمائشیں اور کھیل کے حصے بند کر دیں آلا یہ کہ آپ کا آجر مختلف گھرانے یا پارٹی میں ہر بچے کے بیچ میں نمائش اور آلات کی صفائی اور جراثیم کشی کر سکے۔
- عمومی حصوں — مثلاً نمائشوں میں ہیڈ سینیٹائزر رکھیں۔
- سرپرستوں اور ملاقاتیوں کو مستعار دیے گئے ہیڈ سینیٹس اور دیگر آلات کا استعمال ختم کر دیں۔ اگر آپ واحد استعمال والے نقشے فراہم نہیں کر سکتے ہوں تو، ہر استعمال کے بعد آپ نقشوں کی صفائی اور جراثیم کشی یقینی بنائیں۔

باؤلنگ ایلز کے لیے تقاضے

آپ کے آجر پر لازم ہے کہ:

- تصرف کو زیادہ سے زیادہ گنجائش کے 50% تک محدود رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ گنجائش میں ملازمین اور سرپرست/کھلاڑی اور تماشائی شامل ہیں۔
- یقینی بنائیں کہ چیک ان/اپائنٹمنٹ ڈیسکوں پر ملازمین 6 فٹ کی دوری برقرار رکھیں الّا یہ کہ کوئی جسمانی رکاوٹ جیسے کہ پلیکسی گلاس موجود ہو۔
- یقینی بنائیں کہ ملازمین سرپرستوں/کھلاڑیوں/تماشائیوں سے میل جول کرتے وقت فیس کورنگز پہنے ہوئے ہوں۔
- ملازم کے عمومی حصوں جیسے وقفہ والے کمروں میں اور جہاں کوئی عوامی لائن بنے وہاں، بشمول آلات کے چیک آؤٹ والے حصوں اور کیش رجسٹروں والے حصوں میں 6 فٹ کی دوری واضح طور پر نشان زد کریں۔
- سرپرستوں/کھلاڑیوں کی مختلف پارٹیوں کے بیچ، بشمول کھیل کے دوران کم از کم 6 فٹ کی دوری برقرار رکھنے کے لیے ہر دوسری باؤلنگ لین کو بند کر دیں یا لین کے بیچ طبعی رکاوٹیں کھڑی کریں۔
- یقینی بنائیں کہ سرپرست حضرات/کھلاڑی اپنی تفویض کردہ لین میں خود اپنی پارٹی کے ساتھ رہیں۔
- استعمال کے دوران کرایے پر لیے ہوئے یا شیئر کردہ سامان جیسے باؤلنگ والی گیندوں اور باؤلنگ والے جوتوں کی سختی کے ساتھ صفائی اور جراثیم کشی کریں۔
- یقینی بنائیں کہ سرپرستوں/کھلاڑیوں کی تعداد کسی بھی ایونٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ گنجائش سے کم رہے جس میں ملازمین اور دیگر سرپرست/کھلاڑی/تماشائی شامل ہیں۔
- غذا اور مشروب والی خدمت ممنوع قرار دیں۔